

ROOTWORDS OF AL E IMRAN 7-13

وَهَبَ	وَالرَّاسِخُونَ	تَأْوِيلِهِ	زَيْغٌ	مُتَشَابِهَاتٌ	أُمٌّ
وہب	ر س خ	اُول	ز ی غ	ش ب ہ	اُم م
عطا فرما	پختہ کار / مضبوط	ان کا (صحیح) مطلب	کجی ہے / ٹیڑھے ہیں	متشابه ہیں / ملتی جلتی	اصل
سَتُغْلَبُونَ	العِقَابِ	بِذُنُوبِهِمْ	كِدَابٍ	وَقُودٌ	رَيْبٌ
غ ل ب	ع ق ب	ذ ن ب	د ا ب	و ق د	ر ی ب
غنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے	سزا دینے والے ہیں	ان کے گناہوں کے سبب	جیسا معاملہ / حال	اینڈھن	شک
يَرَوْنَهُمْ	التَّقَاتِ	فَتَيْنِ	الْمِهَادِ	وَبِئْسَ	تُحْشَرُونَ
ر ا ي	ل ق ي	ف ا ي	م ه د	ب ا س	ح ش ر
وہ دیکھتے تھے انکو	باہم مقابل ہوئے	دو گروہوں	ٹھکانہ	اور وہ برا ہے	تم اکٹھے کیے جاؤ گے
الْأَبْصَارِ	يَشَاءُ	بِنَصْرِهِ	يُؤَيِّدُ	الْعَيْنِ	رَأْيٍ
ب ص ر	ش ي ا	ن ص ر	ا ي د	ع ي ن	ر ا ي
بصارت کے	چاہے	اپنی نصرت سے	مدد دیتا ہے	آنکھ کا	دیکھنا